

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

کورس - 4

البقرة: آیت: 85

صفحہ - 12، اشارہ - b

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم
بانی و ڈائریکٹر انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی



سوال: کیا آپ نے اس سبق کی ویڈیو دیکھی؟

.B 50 فیصد سے زیادہ


.A 100 فیصد

.D آئندہ دیکھیں گے۔ ان شاء اللہ

.C 25 فیصد سے زیادہ

سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔




سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔



ہم دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو دائیں
ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔



اعادہ



جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن
قاعدہ اور میثاق بھول کر

جاہل
چند دن
قاعدہ
میثاق

بارہواں صفحہ

وَأَذِّنَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِّقَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

ميثاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب پر ایمان؟

موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں
سے سلوک

بارہویں صفحے کے اشارات
TPI کے ذریعہ

میتاق خون

قتل و اخراج

بعض کتاب پر

ایمان؟

موسیٰ و عیسیٰ اور

رسولوں سے

سلوک



میشاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج

بعض کتاب پر ایمان؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی؟



تعارف

دوسرا اشارہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ
يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِّقَنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

قتل و اخراج

دوسرا اشارہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ
يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾
وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِّقَنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مِمَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

قتل و اخراج

چھلی آیتوں سے تعلق

اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے
باطل عقائد اور ان کی بد
اعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تُمْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

قتل و اخراج

اسباق

- اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے۔
- اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے۔

0 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

3 مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

3 يَأْتُوكُمُ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ط

قتل و اخراج

آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔

قرآن کو سمجھنے میں دو چیلنجز اور ان کا حل:

- الفاظ کے معانی: اشارات اور فقروں کی مدد سے سیکھیے۔
- گرامر: ٹی پی آئی اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیے۔



لفظی و فقہی ترجمہ اور شرح

- فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے۔
- نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی دو مرتبہ پریکٹس کریں گے۔

قتل و اخراج

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

اُن کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی (سے) اور اگر

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی (ہو کر) (تو) تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا اُن کا،

قتل و اخراج

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

ان کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی (سے)

R-5s-10-Loud



قتل و اخراج

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

ان کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی (سے) اور اگر

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی (ہو کر) (تو) تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کا،

R-5s-10-Loud



ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

قتل و اخراج

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

اُن کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی (سے)

- بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ خود مدینہ میں بھی یہود کے تین قبیلوں کا رویہ اسی طرح کا تھا۔ بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ ”اوس“ کے ساتھ تھے تو بنو نضیر دوسرے عرب قبیلے ”خزرج“ کے ساتھ تھے۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

قتل و اخراج

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

اُن کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی (سے)

- جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا تھا اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل قبیلے میں بھی یہود ہیں۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

اُن کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی (سے) اور اگر

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی (ہو کر) (تو) تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا اُن کا،

• جنگ ختم ہونے کے بعد یہود دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے

کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

ان کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی (سے) اور اگر

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی (ہو کر) (تو) تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کا،

• جبکہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے

نکالنا چاہیے تھا۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

اُن کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی (سے) اور اگر

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی (ہو کر) (تو) تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا اُن کا،

• اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ

آج مسلمانوں کی آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی

سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے۔

حدیث

- حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم کرنے سے بچو! کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ (مسلم: 2578)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم (ہی) وہ لوگ ہو (کہ) قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

اُن کے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی (سے) اور اگر

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی (ہو کر) (تو) تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا اُن کا،



سوال :- ترجمہ کیجیے : تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

A (ک) تم قتل کرتے ہو اپنیوں کو

B وہ سب قتل کرتے ہیں تم سب کو

C وہ سب قتل کرتے ہیں اپنیوں کو

D وہ قتل کرتا ہے اپنے کو

سوال :- ترجمہ کیجیے : تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

A (ک) تم قتل کرتے ہو اپنیوں کو

B وہ سب قتل کرتے ہیں تم سب کو

C وہ سب قتل کرتے ہیں اپنیوں کو

D وہ قتل کرتا ہے اپنے کو

سوال :- ترجمہ کیجیے : تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ

A تم چڑھائی کرتے ہو اُس پر

B تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر

C وہ سب چڑھائی کرتے ہیں اُن پر

D وہ سب چڑھائی نہیں کرتے ہیں اس پر

سوال :- ترجمہ کیجیے : تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ

A تم چڑھائی کرتے ہو اُس پر

B تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر

C وہ سب چڑھائی کرتے ہیں اُن پر

D وہ سب چڑھائی نہیں کرتے ہیں اس پر

سوال :- ترجمہ کیجیے : تُفِدُوهُمْ

A ہم بدلہ دے کر چھڑاتے ہوا نہیں

B وہ سب بدلہ دے کر چھڑاتے ہوا نہیں

C تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو اُسے

D تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہوا نہیں

سوال :- ترجمہ کیجیے : تُفِدُّوهُمْ

A ہم بدلہ دے کر چھڑاتے ہوا نہیں

B وہ سب بدلہ دے کر چھڑاتے ہوا نہیں

C تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو اُسے

D تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہوا نہیں

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ

A حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے ان سب پر

B حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر

C حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے ہم پر

D حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے اس پر

سوال :- ترجمہ کیجیے : وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ

A حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے ان سب پر

B حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر

C حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے ہم پر

D حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے اس پر

سوال :- مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟

4 A

5 B

2 C

3 D

سوال :- مدینہ میں یہود کے کتنے قبیلے تھے؟

4 A

5 B

2 C

3 D

سوال :- بنو قریظہ ساتھ تھے۔۔۔۔۔

A مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ "اوس"

B بنو نضیر کے

C عرب کا قبیلہ خزرج کے

D بنو نضیر اور خزرج

سوال :- بنو قریظہ ساتھ تھے۔۔۔۔۔

A مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ "اوس"

B بنو نضیر کے

C عرب کا قبیلہ خزرج کے

D بنو نضیر اور خزرج

سوال :- ظلم کے ارتکاب سے بچو، کیونکہ ظلم ہی۔۔۔۔۔

A خوشی ہے

B قیامت کے دن تاریکی ہے

C فسق ہے

D راحت ہے

سوال :- ظلم کے ارتکاب سے بچو، کیونکہ ظلم ہی۔۔۔۔۔

A خوشی ہے

B قیامت کے دن تاریکی ہے

C فسق ہے

D راحت ہے

الحمد لله



قتل و اخراج

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

ترجمہ

85- پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔



اسباق، دعا اور پلان

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

مِّنْ دِيَارِهِمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

يَأْتَوْكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

قتل و اخراج

اسباق

- اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے۔
- اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے۔

اے اللہ!

مجھے تیرے غضب سے بچا، اور ہر
ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری
مدد فرما۔



اے اللہ!

مجھے تیرے غضب سے بچا، اور ہر
ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری
مدد فرما۔

مطالعہ وغور و فکر



پلان (مثال کے طور پر):

ان شاء اللہ:

نہ ہی میں کسی کو گالی دوں گا اور نہ
ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال
دل میں لاؤں گا۔



أفعال أسماء

ان آیات میں

أَسْمَاءُ

کچھ ان میں سے

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

اسم

اسم

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

اسم

اسم

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

اسم

نَفْسٌ ← أَنْفُسٌ +

إِثْمٌ ← آثَامٌ +

فَرِيقٌ ← فُرُقَاءٌ +

أَسِيرٌ ← أُسَارَىٰ +

دَارٌ ← دِيَارٌ +



ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

TPI?

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

ن ق ت ل قَتَلَ يَقْتُلُ أُقْتِلُ قَاتِلٌ مَقْتُولٌ قَتْلٌ

اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

تین حروف والے صحت مند افعال

فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ

عَلَّمَ



ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

TPI?

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

TPI?

دَعَا عَدُوٌّ يَعْدُوُّ أَعْدَاءُ عَادٍ مَّعْدُوٌّ عُدْوَانٌ

هَدَأَتْ أَيْ يَأْتِيْ ائْتِ آتِ مَاتِيْ ائْتِيَانِ

اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

تین حروف والے کمزور افعال


ہمزہ والے افعال، یکساں حروف

والے افعال

وَهَبَ، وَعَدَ، قَالَ، كَانَ ---

أَمَرَ --- ظَنَّ ---

عَلِمَ



اسم فاعل
اسم مفعول
فعل

أفعال +

مزید فیہ افعال

عَلَّمَ، حَاسَبَ، أَسْلَمَ، اِخْتَلَفَ، اِسْتَفْغَرَ
تَدَبَّرَ، تَدَارَسَ، اِنْقَلَبَ

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

TPI?

مِّنْ دِيَارِهِمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن

TPI?

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

TPI?

TPI?

أَسَّ + خ ر ج أَخْرَجَ يُخْرِجُ أَخْرَجَ مُخْرِجٌ مُّخْرِجٌ إِخْرَاجٌ

تَدَا + ظ ه ر تَظَاهَرَ يَتَظَاهَرُ تَظَاهَرُ مُتَظَاهِرٌ مُّتَظَاهِرٌ تَظَاهِرٌ

حَا + ف د ي فَادَىٰ يُفَادِي فَادٍ مُّفَادٍ مُّفَادَىٰ مُفَادَاةٌ

عَدَّ + ح ر م حَرَّمَ يُحَرِّمُ حَرَّمَ مُحَرِّمٌ مُحَرَّمٌ تَحْرِيمٌ



سوال :- عَدَا سے فعل کا نام (مصدر) بتائیے

A عَدُوٌّ

B عَدُو

C عُدْوَان

D عَادٍ

سوال :- عَدَا سے فعل کا نام (مصدر) بتائیے

A عَدُوّ

B عَدُو

C عُدْوَان

D عَادٍ

سوال :- فَادَى كَا اسْم فَاعِل بْتَايِي

A مُفَادٍ

B مُفَادَى

C مُفَادَاة

D فَادٍ

سوال :- فَاذَى كَا اِسْم فَاَعْل بْتَايِي

A	مُفَادٍ
B	مُفَادَى
C	مُفَادَاة
D	فَادٍ

سوال :- اِثْم کی جمع بتائیے

A اِثْم

B اِثْمِیْن

C اِثْمُوْن

D اِثَام

سوال :- اِثْم کی جمع بتائیے

A اِثْم

B اِثْمِیْنَ

C اِثْمُوْنَ

D اِثَام

الحمد لله





سات ہوم ورک

دو تلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

دو پڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن
یکھے میں ہماری مدد فرما!



ویڈیوز سے پڑھائیے!

◀ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے۔

◀ جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔



ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

www.understandquran.com



بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! <

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! <

www.understandquran.com



ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

◀ ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

www.understandquran.com

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

اے اللہ ہمیں
• قرآن پڑھنے،
• سمجھنے،
• غور کرنے،
• عمل کرنے،
• پھیلانے،
• یاد کرنے کی
توفیق دے۔

